

ضمیمہ - I افراد کے لیے ایف اے ٹی سی اے/سی آر ایس کی ذاتی تصدیق / اقرارنامہ*

برائے مہربانی ٹیکس کے مقاصد اور متعلقہ تفصیلات کے لیے ان تمام ممالک کی نشاندہی کریں جن میں آپ رہائش پذیر ہیں۔

گرایک کی آئی ڈی:

کھاتہ نمبر

نام*

شہریت* ہندوستان میں دوسرے ملک کا نام:

شہر/جائے پیدائش* وطن پیدائش*

پتہ*

شہر/گاؤں*: ضلع*:

ریاست*: پین کوڈ*:

ہندوستان میں ٹیکس رہائش کے ملک کی متعدد ٹیکس رہائش کی تفصیلات، اور/یا ریاست ہائے متحدہ امریکا میں @ اور/یا ہندوستان سے باہر کسی دوسرے ملک یا علاقے میں ذیل کے طور پر:

ٹیکس رہائش کا ملک #	ٹیکس شناختی نمبر یا مساوی اگر دائرہ اختیار سے جاری کیا گیا ہو۔	شناخت کی قسم (ٹی آئی این یا دیگر، برائے مہربانی وضاحت کریں)

* امریکہ کا شہری بشمول وہ فرد جو امریکہ میں پیدا ہوا ہو لیکن دوسرے ملک میں مقیم ہو (جس نے امریکی شہریت ترک نہ کی ہو)
* امریکہ میں رہنے والا شخص بشمول یو ایس گرین کارڈ ہولڈر * چند ایسے افراد جو ہر سال امریکہ میں 180 دن سے زیادہ گزارتے ہیں۔

دائرہ اختیار/ملک میں پتہ- جہاں درخواست دہندہ ٹیکس کے مقاصد کے لیے ہندوستان سے باہر مقیم ہو

پتہ*

ذیلی ضلع: ضلع*: ریاست*:

ملک کا نام* پین/پوسٹ کوڈ*

(B) اقرارنامہ / تصدیق نامہ

جھوٹی گواہی کے جرمات کے تحت، میں/ہم تصدیق کرتے ہیں کہ: میں/ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب نیشنل بینک ایف اے ٹی سی اے/سی آر ایس کی تعمیل کے ضمن میں مذکورہ کھاتے دار کی حیثیت کا تعین کرنے کے مقصد سے ان معلومات پر انحصار کر رہا ہے۔ پنجاب نیشنل بینک ایف اے ٹی سی اے یا سی آر ایس یا کھاتے دار پر پڑنے والے اس کے اثرات پر ٹیکس سے متعلق کوئی مشورہ دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں ٹیکس سے متعلق کسی بھی سوال کے لیے پروفیشنل ٹیکس صلاح کار سے مشورہ لوں گا/گی۔

اگر اس فارم میں موجود کوئی بھی معلومات یا تصدیق غلط ہو جائے تو میں 30 دنوں کے اندر ایک نیا فارم جمع کرانے سے اتفاق کرتا/تی ہوں۔

میں اس بات سے اتفاق کرتا/تی ہوں کہ مقامی ریگولیشنز/ٹیکس اتھارٹیوں کی حسب ضرورت، پنجاب نیشنل بینک کو بھی سی بی ڈی ٹی یا دیگر اتھارٹیوں/ایجنسیوں کو رپورٹ کرنے، حسب موقع قابل اطلاع تفصیلات کی اطلاع دینے یا میرا کھاتہ بند یا معطل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

میں نے اس فارم کی معلومات کے تقاضوں کو سمجھ لیا ہے (ایف اے ٹی سی اے/سی آر ایس یا ایس ہدایات کو پڑھ لیا) اور اس کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرتا/تی ہوں کہ اس فارم میں میرے ذریعہ فراہم کردہ معلومات بشمول ٹیکس دہندہ شناختی نمبر درست، صحیح اور مکمل ہے۔ میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا/تی ہوں کہ میں نے ایف اے ٹی سی اے/سی آر ایس کی شرائط و ضوابط کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے اور اسے قبول کرتا/تی ہوں۔

جگہ

تاریخ

دستخط

ضمیمہ II - نابالغ ہونے کی صورت میں پُر کیا جائے گا

گراہک آئی ڈی:

کھاتہ نمبر

سرپرست کا نام

سی کے وائی سی نمبر:

نام: *

متعلقہ شخص کا اضافہ کرنا

متعلقہ شخص کو حذف کرنا

سرپرست/ تفویض کردہ/ مجاز

نابالغ سے رشتہ

نمائندے کی گراہک آئی ڈی

اگر سرپرست کے پاس بینک میں موجودہ گراہک آئی ڈی نہیں ہے تو سرپرست کا سی آئی ایف حصہ I- فارم ہمیشہ حاصل کیا جانا چاہیے

میں اس کے ذریعے اس نابالغ کی تاریخ پیدائش کا اقرار کرتا/تی ہوں جو میرا..... ہے اور میں اس کا/اس کا فطری و قانونی سرپرست/عدالتی حکم نامہ مورخہ..... کے ذریعہ مقرر کردہ سرپرست ہوں۔ (کاپی منسلک ہے) میں مذکورہ کھاتے میں کسی بھی نوع کے مستقبل کے تمام لین دین میں مذکورہ نابالغ کی نمائندگی کروں گا/گی تاں کہ مذکورہ نابالغ سن بلوغت حاصل کر لے میں مذکورہ بالا نابالغ کے کھاتے سے میرے ذریعہ کسی بھی رقم نکاسی/لین دین کے لیے میں اس کے دعوے کے تئیں بینک کو ضمانت دیتا ہوں۔

متعلقہ شخص کی نوعیت* نابالغ کا سرپرست تفویض کرنے والا مجاز نمائندہ

سرپرست کے دستخط

